


کیا آپ کے گھر میں
نمی یا پھپھوندی
یعنی ماولڈ ہے؟

ہم یہاں مدد کے لیے
موجود ہیں۔

نمی اور پھپھوندی کی کیا وجہ ہے؟

نمی یا پھپھوندی کی تین اہم وجوہات ہیں:



رائزنگ ٹیمپ (چڑھتی ہوئی نم)

یہ تب ہوتا ہے جب نمی زمین سے فرش یا دیواروں میں پھیل جاتی ہے۔ یہ پرانے گھروں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ اندرونی اور بیرونی دونوں ہو سکتا ہے۔ نمی بڑھنے کی علامات یہ ہیں:

- دیوار پر نمی/گیلے دھبے
- وال پیپر اور پلاسٹر کا اُترنا چھلکے نمودار ہونا
- نمی کی اور گندی بو
- سیاہ پھپھوندی (بلیک ماؤلڈ) ظاہر ہونا
- لکڑی کی سکرٹنگ یا لکڑے کے کام کا سڑنا شروع ہونا
- آپ کی دیوار پر ایک لمبی لکیر کے طور پر ظاہر ہونے والے نمکیات کے نشانات



جنب ہونے والی نمی

یہ اس وقت ہوتا ہے جب پانی دیوار، اندرونی چھت یا بیرونی چھت سے عمارت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بیرونی لیکس اور اندرونی پلمبنگ (پانی کا نظام) کے مسائل دونوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے وہ یہ ہیں:

- ٹپکتی ہوئی چھتیں۔
- ٹپکتے ہوئے یا نقصان شدہ گٹر
- پانی کی اندرونی پائپ کا رساؤ
- نقصان شدہ بیرونی دیواریں
- گیلے دھبے
- گیلا اور گرنے والا پلاسٹر
- پلاسٹر میں بلبلے نظر آنا



کنڈنسیشن (عمل کثافت) سے نمی

یہ اس وقت ہوتا ہے جب باہر کی ہوا اندر کی ہوا سے قدرے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ درجہ حرارت میں فرق۔ اندر کی ہوا کو گاڑھا بناتا ہے اور پانی کی بوندیں بننے کا سبب بنتا ہے یہ اکثر کھڑکیوں اور بعض اوقات دیواروں پر دیکھا جا سکتا ہے۔

کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ایسا ہونے سے بچاؤ کے لیے کر سکتے ہیں۔



کثافت کے عمل کنٹنسیشن اور پھپھوندی سے کیسے نمٹا جائے۔



ٹمبل ڈرائر کنٹنسیشن ہونے کا سبب بن سکتے ہیں، اگر ہو سکے تو انہیں باہر نکالنے کی کوشش کریں



اگر آپ کے ہاں پھپھوندی ہو تو اس کو صاف کرنے والی مصنوعات کا استعمال کریں



فرنیچر کو ریڈی ایٹرز اور بیرونی دیواروں سے دور رکھیں کیونکہ اس سے آپ کے گھر کے ارد گرد ہوا کی گردش رک جاتی ہے۔



پھپھوندی سے بچنے کے لیے کھڑکیوں اور دیواروں پر سے نمی کو روزانہ صاف کریں۔



جب آپ شاور، غسل یا کھانا پکا رہے ہوں تو ایکسٹریکٹر یعنی ہوا گش پنکھا آن رکھیں اور دروازہ بند رکھیں


اگرچہ کنٹنسیشن کا ہونا عام طور پر فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اسے زیادہ دیر تک چھوڑ دیا جائے تو یہ کبھی کبھی نمی اور پھپھوندی کی نشوونما کا باعث بن سکتا ہے یہاں چند آسان تجاویز دی گئی ہیں جو آپ اپنے گھر میں کنٹنسیشن اور پھپھوندی کو کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں:



جب ممکن ہو تو کپڑے باہر خشک کریں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ انہیں ایسے کمرے میں خشک کر سکتے ہیں جس میں ایکسٹریکٹر پنکھا ہو، کھڑکی کھلی ہو اور دروازہ بند ہو۔



کھانا پکاتے وقت پین پر ڈھکن رکھیں، یہ نہ صرف بھاپ کو نکلنے سے روکے گا بلکہ توانائی کی بچت بھی کرے گا۔



صبح کھڑکی کھولنے جیسی آسان چیز نمی سے چھٹکارا پانے اور نمی کو خشک کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔




اپنی ہیٹنگ (حرارت کے نظام) کو کم درجہ حرارت پر زیادہ دیر تک چلنے کے لیے ترتیب دیں۔ اس سے نمی کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

ہوم گروپ کس طرح مدد کر سکتا ہے؟

نمی اور پھپھوندی آپ کے گھر میں کسی مسئلے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں جسے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر آپ کو نمی اور پھپھوندی نظر آتی ہے، اور آپ نے جو تراکیب بتائی گئی ہیں وہ آزما چکے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، تو براہ کرم ہمیں بتائیں۔

ہم درج ذیل کریں گے:

- ✓ **سنیں گے** اور آپ کی رپورٹ کو سنجیدگی سے لیں گے
- ✓ **مکمل کرنے کے** لیئے اپوائنٹمنٹ بنائیں **مرمت کا کام**
- ✓ **آپ کے** لیئے اپوائنٹمنٹ بنائیں گے اور آپ کے **ہاں معائنہ کرنے** آپ کے گھر آئیں گے
- ✓ **تجزیہ کریں گے** کسی بھی کام کی ضرورت ہو تو اس پر آپ سے بات کریں گے
- ✓ **اگر ضرورت ہو تو،** ہم آپ کے گھر میں **ویٹیلیشن میں بہتری** لائیں گے اور/یا مولڈ ٹریٹمنٹ کریں گے۔



نمی اور پھپھوندی کے مسئلے کی اطلاع دینے کے طریقے

- ملاحظہ کریں www.homegroup.org.uk/damp
- کال کریں **0345 141 4663** نمی اور پھپھوندی کی مخصوص لائیں کا انتخاب کریں
- مرمت کی اطلاع دینے کے لیے **مائی ہوم اکاؤنٹ** کا استعمال کریں۔





ہوم گروپ
ون سٹرابیری لین،
نیو کیسل اپون ٹائن
NE1 4BX

0345 141 4663
www.homegroup.org.uk